

گورنمنٹ کے مالیاتی پروگرام

آپ کے علاقے میں افزائشی خدمات اونٹاریو (ڈی ایس او) تک رسائی حاصل کرنے کے علاوہ، مندرجہ ذیل سرکاری مالیاتی پروگرام آپ کے لئے دستیاب ہیں:

اونٹاریو معذور امدادی پروگرام (او ڈی ایس پی) Ontario Disability Support Program

- اگر آپ کو معذوری ہے اور اپنے اخراجات سے متعلق مدد کی ضرورت ہے تو، آپ اونٹاریو کے معذور امدادی پروگرام (او ڈی ایس پی) کے اہل ہوسکتے ہیں۔ او ڈی ایس پی کی پیش کردہ امداد:
- آپ اور آپ کے خاندان کو ضروریات زندگی کے اخراجات کی ادائیگی کیلئے مالی امداد۔
- آپ کے اور آپ کے خاندان کی صحت کیلئے فوائد، بشمول نسخے کی دویات اور آنکھوں کی دیکھ بھال۔
- ملازمت تلاش کرنے اور برقرار رکھنے میں، اور اپنے پیشے کو فروغ دینے میں مدد۔

مزید (او ڈی ایس پی) کی معلومات کیلئے آپ اپنے علاقے میں منسٹری آف چلڈرین کمیونٹی اینڈ سوشل سروسز (ایم سی سی ایس ایس) کے دفتر سے رابطہ کریں۔

رجسٹرڈ معذوری بچت منصوبہ (او ڈی ایس پی)

رجسٹرڈ معذوری بچت منصوبہ (او ڈی ایس پی) 'آپ یا آپ کے خاندان کو مستقبل کے لئے بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک (او ڈی ایس پی) اکاؤنٹ ٹیکس فری سود حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اس منصوبے سے باہر نا نکلیں۔

اگر آپ کے خاندان کی آمدنی کم یا معمولی ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ منصوبے میں اپنے حصے کی رقم جمع کریں یا نہیں 'گورنمنٹ اپنا حصہ جمع کر سکتی ہے۔ آپ کو یہ پلان نجی ذرائع سے جمع کردہ حصے کے برابر، حصہ جمع کرنے کیلئے بھی گرانٹ فراہم کر سکتا ہے۔

مستحق افراد کو گورنمنٹ 20,000 ڈالر تک کے بانڈ اور 70,000 ڈالر تک کی مالی امداد کی پیشکش کرتی ہے۔

یہ حکومت کی شراکت آپ کے آر ڈی ایس پی کو ادا کی جاتی ہے جب تک کہ آپ 49 سال کی عمر کے نا ہوجائیں۔ آپ کے آر ڈی ایس پی میں شراکت سے آپ کے دیگر وفاقی فوائد جیسے کینیڈا چائلڈ بینیفٹ، گڈس اینڈ سروسز ٹیکس کریڈٹ، اولڈ ایج سیکورٹی پیننٹ، اور امپلائمنٹ انشورنس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

مزید معلومات کی ضرورت ہے؟

مزید معلومات کیلئے، 211 پر کال کر کے اپنے علاقے کے افزائشی خدمات اونٹاریو (Developmental Services Ontario) ڈی ایس او سے رابطہ کریں، یا اپنے علاقے کے ڈی ایس او کو تلاش کرنے کیلئے dsontario.ca کا ملاحظہ کریں۔



ہم سے رجوع فرمائیں!

dsontario.ca

نومبر 2018